

TEL : (051) 2650805-7



FAX : (051) 2651285-6

## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

Ref: PSM/SECP/695/2023

January 05, 2023

**The Director Enforcement**  
Securities and Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building, Jinnah Avenue – Blue Area  
**Islamabad.**

**SUBJECT: ADVERTISEMENT FOR THE NOTICE OF AGM  
PUBLISHED IN NEWSPAPERS**

Dear Sir,

We hereby submit that we have published the Notice for the Company's Annual General Meeting to be held on January 27, 2023 in the following Newspapers:

1. "The Daily Observer" Islamabad and Karachi - English  
Dated **January 05, 2023**
2. "The Daily Assas" Rawalpindi and Karachi - Urdu  
Dated **January 05, 2023**

We also enclose herewith Notice of the Meeting in accordance with the instructions contained in your Circular No. 2 of 2001 *dated 22 February, 2001*.

Original Notice along with photocopies of the Newspapers cuttings are enclosed herewith for your kind information and record please.

Thanking you

Yours truly

  
**(Mujahid Bashir)**  
Company Secretary

*Encl: as above*



## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

### Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** will be held on January 27, 2023 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business:-

#### Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 25, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2022.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2023. The present auditors' M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

#### Special Business:

5. To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment as Special Resolution.

“**RESOLVED THAT** an increase of 15% to 25% in the remuneration of the working directors w.e.f October 01, 2022 be and is hereby approved.”

The share transfer books of the Company will remain closed from January 17, 2023 to January 27, 2023 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)  
Company Secretary

Mardan  
January 03, 2023

#### N.B:

1. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.





## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original computerized national identity card, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
4. The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of Annual General Meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website [www.chashmasugarmills.com](http://www.chashmasugarmills.com) to the Company's Share Registrar. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.
5. The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2022 along with reports have been placed at website of the Company [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com)
6. In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:  
  
"The Company Secretary, The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited, Kings Arcade 20-A, Markaz F-7, Islamabad."
7. As per Section 72 of the Companies Act. 2017 every existing Listed Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, with a period not exceeding 4 years from the commencement of this Act, i.e May 30, 2017.

The Shareholders having physical shareholding are encouraging to open CDC Sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares will not be permitted as per regulations of the Pakistan Stock Exchange.

TEL : (051) 2650805-7



FAX : (051) 2651285-6

## **THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.**

**King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad**

**Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017**

This statements sets out the material facts pertaining to special business.

### **Material Facts:**

It has been recommended to increase the remuneration of the working directors and salaries of staff @15% to 25% w.e.f October 01, 2022 considering the experience and knowledge of the working directors and increase in operational volumes of the Company. Therefore, in order to compensate the working directors, equitably in accordance with their efforts, the Board of Directors in the meeting held on October 04, 2022, recommended the aforementioned increase and passed the following special resolution;

**“RESOLVED THAT** an increase of 15% to 25% in the remuneration of the working directors' w.e.f. October 01, 2022 be and is hereby approved”

The Directors have no other interest to the extent of aforesaid resolution passed, except for as mentioned above.



**THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY COMPANY LIMITED**

**Notice of Annual General Meeting**

Notice is hereby given that 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** will be held on January 27, 2023 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowsheera Road, Mardan, for transacting the following business:-

**Ordinary Business**

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 25, 2022.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2022.
- To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2023. The present auditors' M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
- To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

**Special Business**

- To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment as Special Resolution.  
**"RESOLVED THAT** an increase of 15% to 25% in the remuneration of the working directors w.e.f October 01, 2022 be and is hereby approved."

The share transfer books of the Company will remain closed from January 17, 2023 to January 27, 2023 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)  
Company Secretary

Mardan  
January 03, 2023

**N.B:**

- A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
- CDC shareholders are requested to bring their original computerized national identity card, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
- The SFCP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of Annual General Meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website [www.chashmasugarmills.com](http://www.chashmasugarmills.com) to the Company's Share Registrar. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.
- The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2022 along with reports have been placed at website of the Company [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com)
- In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:  
 The Company Secretary, The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited, Kings Arcade 20-A, Markaz F-7, Islamabad."
- As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing Listed Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, with a period not exceeding 4 years from the commencement of this Act, i.e May 30, 2017.  
 The Shareholders having physical shareholding are encouraging to open CDC Sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares will not be permitted as per regulations of the Pakistan Stock Exchange.

The statement of Material Fact under section 134(3) pertaining to the "Special Business" of the Companies Act, 2017 is annexed with the notice being sent to the members.

—Islamabad  
Simultaneously published from  
Karachi | Lahore | Peshawar

Vol. XXXIII, Issue 291 Regd. No. 111

Jumada Al-Sani 12, 1444 | January 0



Jan 5 UN Kashmir mandate needs  
implementation: Attique

-Page 03

**OBSEERVER**  
Pakistan  
Eyes & Ears of Pakistan  
Widely read and trusted Daily

Founded by: ZAHID MALIK (Shara-i-Intiaz)

Sabeefa Jabbar will work  
Khalil Ur Rehman under 1  
conditions



www.pakobserver.net

pakobserver

pakobserver

Pakistan observer

pakobserver

"You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try."  
-Beverly Sills

THU



"You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try."  
-Beverly Sills

www.pakobserver.net | pakobserver | Pakistan observer | pakobserver

# Pakistan OBSERVER

Eyes & Ears of Pakistan

Widely read and trusted Daily

Jan 5 UN Kashmir mandate needs implementation: Attique

-Page 03

Saheefa Jabbar will work with Khalil Ur Rehman under these conditions

-Page 12

Founded by: ZAHID MALIK (Sitara-i-Imtiaz)

Vol. XVII, Issue 270 Regd. No. 111

THURSDAY  
Jumada Al-Sani 12, 1444 | January 06, 2023

- Karachi  
Simultaneously published from  
Lahore | Islamabad | Peshawar

## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY COMPANY LIMITED

### Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited will be held on January 27, 2023 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business:-

#### Ordinary Business

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 25, 2022.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2022.
- To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2023. The present auditors' M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
- To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

#### Special Business

- To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment as Special Resolution.

"RESOLVED THAT an increase of 15% to 25% in the remuneration of the working directors w.e.f October 01, 2022 be and is hereby approved."

The share transfer books of the Company will remain closed from January 17, 2023 to January 27, 2023 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)  
Company Secretary

Mardan  
January 03, 2023

N.B:

- A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
- CDC shareholders are requested to bring their original computerized national identity card, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
- The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of Annual General Meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website www.chashmasugarmills.com to the Company's Share Registrar. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.
- The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2022 along with reports have been placed at website of the Company [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com)
- In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:  
The Company Secretary, The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited, Kings Arcade 20-A, Markaz F-7, Islamabad."
- As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing Listed Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, with a period not exceeding 4 years from the commencement of this Act, i.e May 30, 2017.  
The Shareholders having physical shareholding are encouraging to open CDC Sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares will not be permitted as per regulations of the Pakistan Stock Exchange.

The statement of Material Fact under section 134(3) pertaining to the "Special Business" of the Companies Act, 2017 is annexed with the notice being sent to the members.



## دی پرنیمیر شوگر ملز اینڈ ڈسٹلری کمپنی لمیٹڈ

### اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے اراکین کا 77 واں سالانہ اجلاس عام 27 جنوری 2023ء بوقت 11:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر نوشہرہ روڈ، مردان میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام پائیں گے۔

#### عمومی امور

- 1- 25 فروری 2022ء کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 ستمبر 2022ء کو ختم شدہ مالی سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی وغیرہ غرض منظور ہو۔
- 3- 30 ستمبر 2023ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا، سیکرٹری ہونے والے موجودہ ڈائریکٹرز سمیت ڈائریکٹرز کی فہرست پر ترمیم کی اجازت۔
- 4- صاحبِ مدد کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

#### خصوصی امور

- 5- قرار پایا کہ خصوصی قراردادوں کے طور پر، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا، ”قرار پایا ہے کہ درنگ ڈائریکٹرز کی تجویزوں میں 15 سے 25 فیصد اضافے پر 10 اکتوبر 2022ء سے، غور اور ان کی منظوری دی گئی“۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب میں 17 جنوری 2023ء تا 27 جنوری 2023ء (بشمول دونوں دن) بند ہیں گی۔

حساب الحکم بورڈ  
 مجاہد بشیر (کمپنی سیکرٹری)

مردان  
 03 جنوری، 2023

#### نوٹ:

- 1- وہ ممبر جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہیں وہ اپنی طرف سے حاضری بولنے اور ووٹ دینے کے لئے ہر کسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی اجازت تفریق کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کمپنی کے اجلاس کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہان موجود ہوں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ ہر کسی مقرر نہیں کر سکتا۔
- 2- حصد داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے ہندسے کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور رجسٹرار کو مطلع فرمائیں۔
- 3- CDC کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کیپیٹرز انٹرویو شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اکاؤنٹ، بزیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کا شناختی نمبر اجلاس میں حاضر ہونے سے قبل شناخت کے لئے ہراوا لائیں۔ کارپوریٹ اثاثہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے دستخط اور اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)
- 4- نوٹیفکیشن بذریعہ SRO787(1)/2014 تاریخ 29 ستمبر 2014ء کے مطابق SECP نے شیئر ہولڈرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ سالانہ بیننس شیٹ، قطع و تقصانات کے کھاتے، ڈائریکٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ کے ساتھ منسلق سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس بڑھانے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، تاہم ایسے اراکین جو کہ سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مستقبل قریب میں منگوانے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کی ویب سائٹ [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com) پر موجود کنٹیکٹ فارم کو مل کر کے شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔ تاہم کمپنی ایسے ممبروں کو ان کی درخواست پر سالانہ رپورٹس کی فیزیکی کاپیاں بھیجی گئی ہیں۔
- 5- 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ گورنرانے اور ان سے منسلق رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com) پر مہیا کر دی گئی ہے۔
- 6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 132(2) کے مطابق اگر کمپنی جغرافیائی عمل وقوع میں رہائش پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ غیر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے ڈیویڈنڈس سے کم از کم 7 دن پہلے میٹنگ میں شرکت کے لئے سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے قبل رضامندی حاصل کرنا ہوگی، اس میں ڈیویڈنڈ سہولت کا انتظام، اس میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے شرط ہوگا۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے ایک درخواست کمپنی سیکرٹری کو دے گئے پھر رجسٹرار کو بھیجانی ہوگی۔ ”کمپنی سیکرٹری، دی پرنیمیر شوگر ملز اینڈ ڈسٹلری کمپنی لمیٹڈ، 20-A، گلگت آرکائیو، F-7 مرکز، اسلام آباد“
- 7- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق ہر ملٹ کمپنی کو اپنے فزیکل مشرک کو ب انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا اس طریقے سے جس طرح بتایا گیا ہے کمپنی کی طرف سے، جسکے آئندہ مدت یعنی 30 مئی 2017ء سے اور 4 سال سے ڈائمنڈ ہو۔ مشرک ہولڈرز جن کے پاس فزیکل مشرکوں میں ان کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے کہ وہ ڈی ڈی سی میں سب اکاؤنٹ کھولواہیں براہ راست، انٹرنیٹ اکاؤنٹ یا دیگر کی مدد سے تاکہ فزیکل مشرک کو سہولت حاصل ہو۔ یہ نہیں مختلف طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا۔ بشمول حصص کی محفوظ خرید اور فروخت، جب بھی وہ چاہیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ضوابط کے مطابق فزیکل مشرک کی تجارت کی اجازت نہیں ہوگی خصوصی برٹس سے متعلق معلومات سیکشن 134(3) کے تحت منسلک کر کے نوٹس ممبروں کو ارسال کر دیا گیا ہے۔





## دی پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹلری کمپنی لمیٹڈ

### اطلاع سالانہ اجلاس عام

پذریعہ طذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے اراکین کا 77 واں سالانہ اجلاس عام 27 جنوری 2023 بوقت 11:30 بجے دن کھٹی کے رجسٹرڈ دفتر نوشہرہ روڈ، مردان میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام پائیں گے۔

#### عمومی امور

- ۱- 25 فروری 2022 کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- ۲- 30 ستمبر 2022 کو ختم شدہ مالی سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی خوردوخوش اور منظوری۔
- ۳- 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا، سبکدوش ہونے والے موجودہ آڈیٹرز میسرز شائن ونگ جمید چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔
- ۴- صاحب صدر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

#### خصوصی امور

- ۵- قرار پایا کہ خصوصی قراردادوں کے طور پر، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا، "قرار پایا ہے کہ درگنگ ڈائریکٹرز کی تجویزوں میں 15 سے 25 فیصد اضافے پر 101 اکتوبر 2022 سے، فوراً اور ان کی منظوری دی گئی"۔ کمپنی کی منتقلی رجسٹریشن کی کتاب میں 17 جنوری 2023 تا 27 جنوری 2023 (شامل دونوں دن) بند رہیں گی۔

مردان  
حساب الحکم پورڈ  
مجاہد بشیر (کمپنی سیکرٹری)  
03 جنوری، 2023

#### نوٹ

- ۱- وہ ممبر جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہیں وہ اپنی طرف سے حاضری بولنے اور ووٹ دینے کے لئے ہر کسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی اجازت تقرری کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کمپنی کے اجلاس کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں اور ان پر باقاعدہ مہر، دھخلا اور گواہان موجود ہوں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ ہر کسی مقرر نہیں کر سکتا۔
- ۲- حصداران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے ہند میں کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور رجسٹرار کو مطلع فرمائیں۔
- ۳- CDC کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کیپیٹل انویسٹمنٹ کی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اکاؤنٹ، بزیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کا مشترکہ نمبر اجلاس میں حاضر ہونے سے قبل شناخت کے لئے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ اثاثہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ کے ساتھ نامزد کردہ نمونہ دھخلا اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)
- ۴- نوٹیفکیشن پذریعہ 2014/1(787) SRO تاریخ ستمبر 2014 کے مطابق SECP نے شیئر ہولڈرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ سالانہ بینکس شیٹ، بلع و نقصانات کے کھاتے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ کے ساتھ منسلق سالانہ جنرل بینک کالوٹس برریہ ای میل وصول کر سکتے ہیں، تاہم ایسے اراکین جو کہ سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مستقبل قریب میں منگوانے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایسے ای میل ایڈریس کمپنی کی ویب سائٹ [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com) پر موجود کنٹیکٹ فارم کو پل کر کے شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔ تاہم کمپنی ایسے ممبرز کو ان کی درخواست پر سالانہ رپورٹس کی فزیکل کاپیاں بغیر کسی اضافی لاگت کے مہیا کرے گی۔
- ۵- 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ گوشوارے اور ان سے منسلق رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ [www.premiersugarmills.com](http://www.premiersugarmills.com) پر مہیا کر دی گئی ہے۔
- ۶- کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق اگر کمپنی جنرالیٹی عمل وقوع میں رہائش پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ مشر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے دو ڈیپازٹس سے کم از کم 7 دن پہلے بینک میں شرکت کے لئے سالانہ جنرل بینک کی تاریخ سے قبل رضامندی حاصل کرنا ہوگی، اس مشر میں دو ڈیپازٹ کی سہولت کا انتظام، اس مشر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے ایک درخواست کمپنی سیکرٹری کو دینے کے بعد پرجھوٹائی ہوگی "کمپنی سیکرٹری، دی پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹلری کمپنی لمیٹڈ، 20-A، کنکڑا کرلیڈ، F-7، فرمکن، اسلام آباد"
- ۷- کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر ملٹ کمپنی کو اپنے فزیکل مشر ڈو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا اس طریقے سے جس طرح بتایا گیا ہے کمپنی کی طرف سے، جسکے آثار کی مدت یعنی 30 مئی 2017 ہے اور 4 سال سے ڈانڈنا ہو۔ مشر ڈو بک رجسٹرڈ جن کے پاس فزیکل مشر ڈو بک میں ان کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے کہ وہ مئی ڈی بی میں سب اکاؤنٹ کھولیں براہ راست، انوشرا کاؤنٹ یا بروکر کی مدد سے تاکہ فزیکل مشر ڈو بک میں تبدیل کیا جاسکے۔ یہاں تک مختلف طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا۔ بشمول حصص کی محفوظ جوہل اور فروخت، جب بھی وہ چاہیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکچینج کے ضوابط کے مطابق فزیکل مشر ڈو بک کی تجارت کی اجازت نہیں ہوگی خصوصی برنس سے متعلق معلومات سیکشن (3) 134 کے تحت منسلق کر کے نوٹس ممبرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔